

نیو یارک تیار ہے!

ہری کین (طوفان بادو باراں) طوفان اور نیو یارک شہر

2018 ایڈیشن

NYC
Emergency
Management



NYC.gov/knowyourzone

ہری کین نیو یارک شہر میں بڑے
نقصان اور تباہی کی وجہ بن
سکتے ہیں۔

طوفان کے آنے سے پہلے اپنے
خاندان اور گھر کو محفوظ رکھنے
کے لئے ایک منصوبہ تیار کریں۔
آپ کس طرح تیاری کر سکتے
ہیں، یہ جاننے کے لئے آگے پڑھیں۔



ہری کین کے متعلق بنیادی باتیں

آپ کو کونسی اصطلاحات سے واقف ہونا چاہئے خطرات کو جانیں

اسٹورم سرج

یہ ہری کین کی وجہ سے ہونے والی سب سے زیادہ اموات کا ذمہ دار ہے، اس قسم کے ہری کین میں سمندری پانی ایک گنبد نما طوفانی موج کی شکل اختیار کرتا ہے جسے ہری کین کی لہریں ساحل پر پھینک دیتی ہیں۔ ایک بڑا ہری کین 30 فٹ سے زیادہ سمندری طوفانی موج کو (تین منزلہ عمارت کی اونچائی تک) نیو یارک شہر کے کچھ علاقوں میں پھینک سکتا ہے اور طوفانی موج ساحل سے کئی میل دور تک چل سکتی ہے۔ طوفانی موجیں اور لہروں کے بڑے تھپیڑے جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، عمارت کو تباہ کرسکتے ہیں، ساحلوں اور ٹیلوں کو ڈھ کر لے جاسکتے ہیں، اور سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

ہوا

74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی متواتر ہواؤں پر مشتمل ہری کین عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ سکتے ہیں اور کھلی چیزوں کو جان لیوا ہتھیار بنا سکتے ہیں۔

بارش

ہری کین سے ہونے والی بھاری بارشیں تیز رو سیلابوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نشیبی اور ناقص آب نکاسی والے علاقے کو خاص طور پر سیلابوں کا زیادہ خطرہ لاحق ہے۔

ہری کین کا موسم

یکم جون سے 30 نومبر تک (تاریخی اعتبار سے، نیو یارک شہر میں ہری کین آنے کا سب سے زیادہ امکان اگست سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔)

ٹراپکل سائیکلون

بادلوں اور برق و باراں کے طوفانوں کا ایک منظم، گردشی، کم دباؤ والا موسمی نظام جو منطقہ حارہ کے علاقوں میں بنتا ہے۔

ٹراپکل طوفان

73-39 میل فی گھنٹہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک گرم بگولا

ہری کین

74 میل فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ متواتر تیز ہواؤں کا ایک گرم بگولا۔

ہری کین واچ

کسی مخصوص علاقے میں ہری کین والے حالات ممکن ہوں اس کے بارے میں اعلان۔ ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 48 گھنٹے پہلے واچ جاری کیا جاتا ہے۔

ہری کین وارننگ

کسی مخصوص علاقے میں ہری کین کے حالات کی توقعات کے متعلق اعلان ہواؤں کے طوفانی قوت اختیار کرنے کے امکان سے 36 گھنٹے پہلے وارننگ جاری کی جاتی ہے اور جب تک پانی اور لہریں خطرے کی اونچی سطح تک رہتی ہیں وارننگ جاری رہ سکتی ہے۔

طوفان کے زمرے

ہری کین کی مسلسل ہوا کی رفتار کے مطابق انہیں پانچ اقسام میں درجہ بند (1 سے 5 تک) کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے طوفانی ہوا کی رفتار اور شدت بڑھ جاتی ہے، قسم کا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے

وسائل

فیس بک اور ٹویٹر پر سٹی آف نیو یارک
www.facebook.com/nycgov
@nycgov

نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام
www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

نیشنل ہری کین سنٹر / ٹراپکل پریڈکشن سنٹر
www.nhc.noaa.gov

نیشنل ویڈر سروس
www.weather.gov

کون ایڈیسن (Con Edison)
1-800-75-CONED (800-752-6633)،
(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

PSEG لانگ آٹلینڈ (PSEG LI)
(TTY: 631-755-6660), 1-800-490-0025
www.psegliny.com

نیشنل گریڈ
(TTY: 718-237-2857), 718-643-4050
www.nationalgridus.com

جب تک بصورت دیگر بیان نہ کیا جائے، سٹی ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کے لئے 311 پر کال کریں (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675 یا ٹی ٹی وائی: 212-504-4115) یا NYC.gov کا استعمال کریں۔

این وائی سی ایمرجنسی منیجمنٹ
NYC.gov/emergencymanagement

اپنے علاقے کے بارے میں جانیں
NYC.gov/knowyourzone

این وائی سی کو اطلاع دیں
مفت موبائل ایپلیکیشن حاصل کر کے، یا
NYC.gov/notifynyc پر جاکر، یا 311 پر رابطہ
کر کے، یا ٹویٹر پر @NotifyNYC

این وائی سی کے میٹر کے آفس برائے
معدور افراد
NYC.gov/mopd

فیس بک اور ٹویٹر پر این وائی سی
ایمرجنسی منیجمنٹ
www.facebook.com/
NYCemergencymanagement
@nycem

تیار رہیں

تباہی سے نمٹنے کا منصوبہ تیار کریں

ہری کین کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو کس طرح تلاش کرنا ہے اور ایک دوسرے سے کس طرح رابطہ کرنا ہے، ان سب کے متعلق اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کریں۔ ریڈی نیو یارک کا استعمال کریں: NYC.gov/myemergencyplan پر میرا ایمرجنسی منصوبہ یا ریڈی نیو یارک موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کریں جو اسمارٹ فونوں اور ٹیبلیٹوں کے لئے دستیاب ہے۔

اپنے حلقے کو جانیں

شہر کے وہ علاقے جو طوفانی لہر کے سیلاب کی زد میں ہیں، ان کو طوفانی لہر کے سیلاب کی بنیاد پر چھ حلقوں میں (1 سے لیکر 6 تک) تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہری کین کے راستے اور ممکنہ طوفانی موج کی بنیاد پر شہری انتظامیہ مکینوں کو انخلا کا حکم دے سکتا ہے۔

ہری کین انخلاء کے علاقوں کو تلاش کرنے کے لئے NYC.gov/knowyourzone ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) کال کریں، یا اس پمفلٹ کے نقشے کو دیکھیں آیا آپ ہری کین کے انخلاء والے علاقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی انخلاء علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کے علاقے سے انخلاء کا حکم جاری ہونے کی صورت میں ایک پلان تیار رکھیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔

کیا آپ کے پاس صحیح انشورنس ہے

چاہے آپ کا اپنا گھر ہو یا آپ کا گھر کرایے پر ہو، بنیادی پالیسی میں سیلاب اور ہوا سے ہونے والے نقصان کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ کو سیلاب کی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کے لئے ایک الگ پالیسی خریدنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام (National Flood Insurance Program) کے بارے میں مزید معلومات کے لئے www.floodsmart.gov ملاحظہ کریں۔

معذور، رسائی اور خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لئے


اپنے منصوبے کی تیاری کے دوران اپنے انخلاء، اپنی عمارت میں ایلیویٹر کے استعمال، پناہ کے قیام، اور ہنگامی کارکنان کے ساتھ رابطے پر ضرور غور کریں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کنبے، دوستوں، عمارت کے کارکنان یا خدمات فراہم کرنے والوں سے اس کا انتظام کر لیں۔ اگر آپ طوفان سے قبل اپنے طور پر انخلاء کرنے سے قاصر ہیں تو مدد کے لئے 311 سے رابطہ کریں۔

اگر آپ زندگی کو برقرار رکھنے والے سامان کے لئے بجلی پر انحصار کرتے ہیں، تو انخلا کا منصوبہ بنائے۔ ہری کین کے بعد ممکن ہے کہ آپ بجلی سے محروم ہو جائیں۔ اگر آپ زندگی بچانے والے آلات پر انحصار کرتے ہیں، اپنی یوٹیلٹی کمپنی سے معلوم کریں کہ کیا آپ اپنے طبی آلات کی وجہ سے زندگی بچانے والے آلات کے کسٹومر کے زمرے میں آتے ہیں۔

جلدی نہ کریں اور اپنی منتقلی کے لئے سواری کی ضروریات، غذائی ضروریات اور مخصوص طبی ضروریات (آکسیجن، اضافی بیڑیاں/چارجر، عینک، دوائیاں، وغیرہ) کو مد نظر رکھیں۔ اپنے ساتھ تمام ادویات لے آئیں اور صحت کی نگہداشت کے فراہم کنندگان کے رابطے کی معلومات لکھ کر دسترس میں رکھیں۔

ای میل، فون، ایس ایم ایس/ٹیکسٹ یا ٹویٹر کے ذریعے ہنگامی اطلاعات اور تازہ معلومات حاصل کرنے کے لئے نوٹفائے نیویارک کے لئے سائن اپ کیجئے۔ پیغامات امریکی سائن لینگویج (ASL) میں بھی دستیاب ہیں۔ مفت موبائل ہیلپکیشن حاصل کریں، NYC.gov/notifynyc کو ملاحظہ کریں، 311 کو کال کریں، یا @NotifyNYC کو ٹویٹر پر فالو کریں۔ تازہ ترین معلومات کے لئے NYC.gov/emergencymanagement سے رجوع کرنا نہ بھولیں۔

اپنے حلقے کو جانیں



انخلاء کے علاقوں کو تلاش کرنے کے لئے NYC.gov/knowyourzone ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کر کے (ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115) معلوم کریں کہ آپ ہری کین کے انخلاء والے کون سے علاقے میں رہتے ہیں۔

اگر طوفان آتا ہے

مندرجہ ذیل اقدامات کر کے تیار رہیں:

- کھلی، ہلکی چیزیں جیسے لان فرنیچر اور کوڑے دان وغیرہ گھر کے اندر لے آئیں۔
 - ایسی چیزوں کو زنجیر وغیرہ سے باندھ لیں جو گھر کے اندر رکھنا غیر محفوظ ہوں، جیسے گیس گرل یا پروپین ٹینک۔
 - کھڑکیوں اور باہر کے دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر دیں۔
 - قیمتی سامان بیسمنٹ سے اوپر والی منزلوں میں منتقل کر دیں۔ (بیسمنٹ میں سیلاب کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔)
 - سیل فون کی بیٹری کو چارج کریں۔
 - اپنی گاڑی اور جینیٹر میں پوری حد تک گیس ڈالیں۔
 - اگر آپ انخلائی علاقے میں رہتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو اونچی زمین پر منتقل کرنے پر غور کریں۔
 - اپنے فرج اور فریزر کو زیادہ ٹھنڈی سیٹنگ پر رکھیں۔ بجلی جانے کی صورت میں جن چیزوں کو ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ طویل مدت کے لئے ٹھنڈے رہیں گے۔
 - اپنے ہاتھ ٹب اور دیگر بڑے برتنوں کو پانی سے بھر لیں اگر بجلی چلی جائے تو پانی بھی چلا جاسکتا ہے۔
 - نسخے کی دوائیوں کو ریفل کریں۔
- دوستوں، رشتہ داروں، اور پڑوسیوں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد اور معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی ضروریات، یا صحت سے متعلق مسائل والے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اگر ضرورت ہو تو انہیں تیار ہونے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ اپنی ملکیت، مال و اسباب کو محفوظ رکھنے کے بارے میں جاننے کے لئے ریڈی نیو یارک استعمال کریں: NYC.gov/readyny پر خطرات کو کم کریں کا رہنما۔



اشیائے ضروری اکٹھا کریں

ضروری اشیا پر مشتمل بیگ تیار رکھیں

گھر کے ہر فرد کے لیے ایک گو بیگ تیار ہونا چاہیئے - یہ ایک ایسی بیگ ہے جو اٹھانے میں آسان ہو جیسے ایک بیک پیک - اس میں وہ تمام چیزیں رکھیں جن کی انخلا کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے۔

گو بیگ میں کونسی چیزیں ڈالی جانی چاہئیں، مندرجہ ذیل تجاویز سے رجوع کریں۔ جو چیزیں آپ فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں بشمول طبی آلات اور آپ کی کھانے کی ضروریات ان کے لیے خالی جگہیں فراہم کی گئی ہیں۔

■ پانی کی بوتل اور خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں جیسے گرینولا بار

■ ایک واٹر پروف ڈبے میں اپنے اہم دستاویزات کی نقول (جیسے انشورنس کارڈ، میڈیکل/میڈیکل کارڈ، تصویری شناخت نامے، پتے کا ثبوت، شادی اور ولادت کی اسناد، کریڈٹ اور ATM کارڈوں کی نقول، وغیرہ)

■ فلیش لائٹ، بینڈ کریٹک یا بیٹری سے چلنے والا AM/FM ریڈیو، اور اضافی بیٹریاں

■ ایک فہرست میں آپ کی زیراستعمال تمام ادویات، استعمال کرنے کی وجہ، اور خوراک

■ آپ کے گھرانے اور آپ کے امدادی نیٹ ورک کے اراکین کے لیے رابطے کی معلومات

■ نقدی، چھوٹے نوٹوں میں

■ نوٹ پیڈ اور قلم

■ طبی آلات کا بیگ اپ (جیسے چشمے، بیٹریاں) اور ان کے چارجر

■ سپاٹ پہیے والی کرسی یا اسکوٹر کے ٹائروں کی مرمت کرنے کے لیے ایروسول ٹائر مرمتی کٹ اور/یا ٹائر انفلیٹر

■ ڈاکٹروں کے نام اور فون نمبر

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

■ بچے کی دیکھ بھال، پالتو جانوروں کی دیکھ بھال، اور دیگر خاص چیزیں

■ اپنے خدمت دینے والے جانور یا پالتو جانوروں کے لیے رسد (جیسے، غذا، اضافی پانی، کٹوری، پٹہ، صفائی والے آئٹم، ٹیکے کے ریکارڈ اور دوائیاں)

■ پورٹ ایبل سیل فون چارجر

■ دیگر نجی چیزیں:

ہنگامی حالات میں کام آنے والی اشیا کی ایک کٹ بنائیں

ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہری کین کے دوران جہاں ہیں وہیں پر پناہ لینے (گھر میں) کی ضرورت پڑے۔ اپنے گھر میں کم سے کم سات دن گزارہ کرنے کے لیے کافی سامان رکھیں۔ مزید برآں، بنیادی سہولیات جیسے بجلی، پانی، پبلک ٹرانسپورٹ، اور ٹیلی فون کئی دنوں تک یا لمبی مدت تک متاثر ہوسکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ ممکنہ طور سروس بند ہونے کے دوران آپ کے پاس کافی اضافی سامان ہے۔

آپ جو چیزیں شامل کرتے جائیں ان کے لیے درج ذیل تجاویز پر غور کریں۔

■ فی فرد فی یوم کے حساب سے پینے کے پانی کا ایک گیلن

■ خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار ڈبہ بند کھانا، اور کین کھولنے والا دستی آلہ

■ ابتدائی طبی امداد کا باکس (فرسٹ ایڈ کٹ)

■ ادویات کی فہرست جس میں آپ کی زیر استعمال ادویات، استعمال کی وجہ اور خوراک درج ہو

■ فلیش لائٹ، بیٹری سے چلنے والا لائل ٹین، بیٹری سے چلنے والا AM/FM ریڈیو، اور اضافی

بیٹریاں، یا وائنڈ اپ بیٹریاں جن کے لیے بیٹریاں درکار نہیں ہوتی ہیں

■ گلو اسٹک

■ سیٹی یا گھنٹی

■ اگر ممکن ہو تو طبی آلات کا بیگ اپ (جیسے آکسیجن، دوا، اسکوٹر کی بیٹری، سماعتی

آلات، حرکت پذیری والے آلات، چشمہ، چہرے کا ماسک، دستانے)

■ طبی آلات (جیسے پیس میکر) کا اسٹائل اور سیریل نمبر اور استعمال کی ہدایات

■ دیگر چیزیں:

اگر آپ کو انخلاء کی ضروری ہو

جائے گا اور ان سے نیویارک کی کسی بھی پناہ گاہ میں انکی امیگریشن حیثیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔

اگر شہر کی طرف سے آپ کے علاقے کے لیے انخلاء کا حکم دیا گیا ہے، تو ہدایات کے مطابق انخلاء کریں

اگر آپ کے پاس پالتو جانور یا سروس کے جانور ہیں

اگر بری کین کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو یقینی بنائیں کہ منصوبہ برائے آفت میں یہ طے ہو کہ آپ اپنے پالتو یا خدمت والے جانور کے ساتھ کیا کریں گے۔

اگر انخلاء کی حدود سے باہر کے علاقے میں آپ اپنے پالتو جانور کو سگ خانہ میں یا دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ پناہ نہیں دے سکتے تو شہر کی سبھی پناہ گاہوں میں پالتو اور سروے کے جانور لانے کی اجازت ہے۔ برائے مہربانی اپنے پالتو جانور کے لیے رسد ہمراہ لائیں جس میں خوراک، رسی، پنجرہ اور دوائیاں شامل ہوں۔ ریڈی نیو یارک استعمال کریں: میرے پالتو جانور کا ایمرجنسی پلان NYC.gov/readyny کا استعمال کریں۔

اگر آپ بیسمنٹ میں رہتے ہیں

بیسمنٹ اپارٹمنٹ والی عمارتوں میں رہنے والے لوگوں کو بری کین سے اضافی خطرات ہو سکتے ہیں چاہے وہ انخلاء کی حدود سے باہر بھی ہوں۔ شہر کے کئی علاقے بارشی سیلاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیسمنٹ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو بالائی سطح پر پناہ لینے کے لیے تیار رہیں۔

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں

اگر آپ ایک اونچی عمارت میں رہتے ہیں، خاص طور پر 10 ویں فلور یا اس سے اوپر تو کھڑکیوں کے ٹوٹنے یا لرزے کے صورت میں ان سے دور رہیں۔ آپ کو کسی نچلے فلور پر منتقل ہوجانا چاہیئے۔ اپنی عمارت کے انخلاء منصوبے سے آگاہ رہیں۔

اگر اپنی بلڈنگ سے باہر جانے کے لئے آپ اپلیوٹر پر انحصار کرتے ہیں تو جلدی انخلاء کریں۔ اپلیوٹر خراب ہو سکتے ہیں یا ہر وقت دستیاب نہیں ہوسکتے ہیں۔

سٹی انتظامیہ، مقامی میڈیا کے ذریعے اس بارے میں خصوصی ہدایات جاری کرے گا کہ شہر کے کن علاقوں کو خالی کرنا چاہیئے۔ اگر لازمی انخلاء کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو ہدایت پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طوفان سے کئی گھنٹوں قبل پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوسکتا ہے۔ انخلاء کے طریقہ کاربشمول قابل رسائی ٹرانسپورٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی 311 پر (ویڈیو ریلے سروس کے لیے 212-639-9675 پر یا ٹی ٹی وائی 212-504-4115 پر) رابطہ کریں۔

معلوم کریں کہ آپ کہاں جائیں گے

شہری انتظامیہ انخلاء کرنے والوں کو سختی سے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کی تجویز دیتا ہے جو انخلاء کے علاقے سے باہر رہتے ہیں۔ ان افراد کے لیے جن کی کوئی پناہ نہیں، شہری انتظامیہ پانچوں قصبوں میں پناہ کے مراکز کھول دے گا۔

اگر آپ کسی پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، تو ہلکا پھلکا سامان باندھیں، اور مندرجہ ذیل سامان اپنے ساتھ لائیں:

■ اپنا گو بیگ

■ سونے کا بستر یا بستر بند

■ دوا کی (اگر ممکن ہو) کم از کم ایک ہفتے کی خوراک، طبی سامان، یا طبی آلات جن کا آپ باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں

■ نجی استعمال کی چیزیں، صابن وغیرہ

شہری پناہوں میں قابل رسائی سہولتیں اور معذور، رسائی اور عمل سے متعلق خصوصی ضروریات والے لوگوں کے لیے جگہ شامل ہے۔

کسی خاص سہولت کی معذور اشخاص کے لئے رسائی کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے

NYC.gov/knowyourzone پر بری کین کے انخلاء والے علاقوں کے فائنڈر کو دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔ تمام پناہ لینے والوں کو قبول کیا

اگر آپ کو انخلاء کے لئے حکم نہیں دیا گیا ہے

جہاں ہیں وہیں پناہ لیں

بجلی کے لئے تیار رہیں

اگر آپ کو انخلاء کی ضرورت نہ پڑے، تو جہاں ہیں وہیں پناہ لیں اور اپنی ایمرجنسی سپلائی کٹ کو استعمال میں لائیں۔ ٹوٹنے یا لرزے کے صورت میں کھڑکیوں سے دور رہیں اور بری کین کے خطرات سے بچنے کے لئے باہر نہ جائیں۔

بجلی جانے یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہونے کی حالت میں یقینی بنائیں کہ آپ کے ایمرجنسی سپلائی کٹ میں تجویز کردہ تمام اشیاء موجود ہیں۔

اگر آپ کو بجلی جانے، بنیادی خدمات، اور پبلک ٹرانسپورٹ کی محرومی سے متاثر ہونے کی فکر ہے، تو انخلاء پر غور کریں۔

یہ گائیڈ آڈیو فارمیٹ میں اور درج ذیل زبانوں میں دستیاب ہے۔

ARABIC

للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقى السمع: 212-504-4115) أو قم بزيارة NYC.gov/readyny

BENGALI

এই গাইডের একটি বাংলা কপি পেতে চাইলে, 311 (TTY: 212-504-4115) নম্বরে ফোন করুন অথবা NYC.gov/readyny দেখুন।

CHINESE

如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。

ENGLISH

Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

FRENCH

Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE

Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN

Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 (TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN

본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH

W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311 (nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową NYC.gov/readyny.

RUSSIAN

Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH

Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este folleto en español.

URDU

اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH

צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער באזוכט NYC.gov/readyny.

نیو یارک شہر کے ہری کین سے انخلاء کے حلقے

اپنے حلقے کو جانیں*
 این وائے سی انخلاء مراکز: اپنا نزدیک ترین مرکز نقشے پر دریافت کریں

اپنے حلقے کو جانیں*

1. انخلاء کے حلقے کو جانیں*
 NYC.gov/knowyourzone پر ہری کین سے انخلاء والے علاقوں کا دریافت کنندہ استعمال کر کے یا 311 (212-639-9675) ویڈیو ریلے سروس کے لئے، یا ٹی ٹی وائی (212-504-4115) پر کال کر کے یا اس نقشے پر غور کر کے تعین کر لیں کہ آیا آپ ہری کین سے انخلاء کے حلقے میں رہتے ہیں یا نہیں اگر آپ کا پتہ شہر کے ہری کین والے علاقوں میں ہے تو نیو یارک شہر کو ہری کین سے خطرے کی صورت میں آپ کو انخلاء کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

2. انخلاء کرنے والوں کو اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کے لئے تیار رہنا چاہئے جو انخلاء کے علاقے کی حدود سے باہر رہتے ہوں۔

3. اگر آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے پاس نہیں رہ سکتے تو، 311 پر (212-639-9675) ویڈیو ریلے سروس کے لئے، یا ٹی ٹی وائی (212-504-4115) پر کال کر کے فائنڈر کا استعمال کریں، یا پھر اس نشاندہی کے لئے کہ انخلاء کا کونسا سنٹر آپ کے لئے صحیح ترین ہوگا، اس نقشے کا استعمال کریں۔

* انخلاء کی معلومات بدل سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لئے براہ مہربانی NYC.gov پر جائیں یا 311 پر کال کریں (212-639-9675) ویڈیو ریلے سروس کے لئے یا ٹی ٹی وائی (212-504-4115) ٹرانزٹ کی تازہ ترین معلومات کے لئے MTA کی ویب سائٹ www.mta.info پر جائیں یا 511 پر کال کریں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی کے دوران انخلاء میں مدد کی ضرورت ہو تو 311 کو کال کریں۔

ہری کین سے انخلاء والے حلقے**

جب ایک ساحلی طوفان آ رہا ہو، سٹی حلقہ 1 سے شروع کر کے ضرورت کے مطابق مزید حلقوں کو شامل کرتے ہوئے سیلاب کے خطرے میں آنے والے علاقوں سے انخلاء کا حکم دے سکتی ہے۔ پیش گوئی کے مطابق ہری کین کی طوفانی موج کی شدت، قوت اور راستے کی وجہ سے زندگی، کو لاحق خطرات کی بنیاد پر حلقے خالی کیے جاسکتے ہیں۔



انخلاء کم، ممکن ہے۔
 انخلاء بہت، ممکن ہے۔

یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ ہری کین کے انخلاء والے حلقے میں رہتے ہیں NYC.GOV/KNOWYOURZONE
 ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔

انخلاء مراکز

قابل رسائی انخلاء مراکز

** انخلاء مراکز بشمول رسائی کی خصوصیات سے متعلق معلومات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ عمارتوں کی صورت حال اور رسائی کی خصوصیات سے متعلق تازہ ترین اطلاعات کے لیے براہ کرم NYC.gov/knowyourzone ملاحظہ کریں یا 311 پر رابطہ کریں۔

ہلڈ زون کو ہلڈ انشورنس کی شرح اور عمارت کے ضابطے کا نام کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ باشندوں کو چاہئے کہ وہ ساحلی طوفان کے دوران انخلاء کی ضرورت کے تعین میں ہلڈ زون کا استعمال نہیں کریں۔ سٹی انتظامیہ، شہر کی طرف سے ہلڈ زون کی طرف سے انخلاء کے حلقوں کے مطابق طے کرے گا کہ ہری کین سے انخلاء کے حلقوں (زون 1 سے زون 6 تک) کو خالی کیا جائے گا۔ ہلڈ زون کے بارے میں مزید معلومات کے لئے www.floodmaps.nyc.gov یا NYC.gov/floodmaps ملاحظہ کریں۔

BRONX

HS OF LAW, GOV'T & JUSTICE 244 EAST 163RD ST.	IS / HS 362 921 E. 226TH ST.	PS 132 1245 WASHINGTON AVE.
IS 158 800 HOME ST.	MEYRAN/BELLEW EDUCATION COMPLEX 1640 BRONXDALE AVE.	PS 211 1919 PROSPECT AVE.
IS 201 73D BRYANT AVE.	MORRIS HEIGHTS EDUCATIONAL COMPLEX 1780 DR. MARTIN LUTHER KING JR. BLVD	PS / IS 218 1220 GERARD AVE.
IS 391 2225 WEBSTER AVE.	MS / HS 141 660 W. 237TH ST.	WALTON HS 2780 RESEVOIR AVE.

MANHATTAN

GEORGE WASHINGTON EDUCATIONAL CAMPUS 549 AUDUBON AVE.	LOUIS D. BRANDEIS HS 145 W. 84TH ST.	PS 92 222 W. 134TH ST.
IS 88 215 W. 114TH ST.	MARTIN LUTHER KING JR. HS 122 AMSTERDAM AVE.	PS / IS 210 501-503 W. 152ND ST.
IS 90 21 JUMEL PLACE	MIDTOWN EAST CAMPUS (PS 59) 212 E. 54TH ST	
IS 131 100 HESTER ST.	NORMAN THOMAS HS 111 E. 33RD ST.	

QUEENS

AVIATION HS 45-30 36TH ST.	JHS 185 147-26 25TH DR.	PS 307 40-20 100TH ST
FOREST HILLS HS 67-01 10TH ST.	JHS 25 34-65 192 ST.	PS 58 72-24 GRAND AVE.
FRANK SINATRA HS 35-12 35TH AVE.	PS 100 111-11 118TH ST.	HS OF TEACHING, LIB. ARTS & SCI. 74-20 COMMONWEALTH BLVD.
GROVER CLEVELAND HS 21-27 HIRSH ST.	PS 149 93-11 34TH AVE.	TOWNSEND HARRIS HS 149-11 MELBOURNE AVE.
HILLCREST HS 160-05 HIGHLAND AVE.	PS 239 17-15 WEIRFIELD ST.	
IS 74 61-15 OCEANIA ST.	PS / IS 268 92-07 175TH ST.	

BROOKLYN

ADAMS STREET EDUCATIONAL CAMPUS 299 ADAMS ST	IS 55 2021 BERGEN ST.	PS 24 427 38TH ST.
BROOKLYN TECH HS 29 FORT GREENE PLACE	IS 88 544 7TH AVE.	PS 289 90D ST. MARKS AVE.
IS 2 655 PARKSIDE AVE.	MIDDLE COLLEGE HS 1186 CARROLL ST.	PS 6 43 SNYDER AVE.
IS 227 6500 16TH AVE.	PS 12 430 HOWARD AVE.	PS 7 858 JAMAICA AVE.
IS 324 1300 GREENE AVE.	PS 145 100 NOLL ST.	PS / IS 30 7002 4TH AVE.
IS 383 1300 GREENE AVE.	PS 226 6006 23RD AVE.	

STATEN ISLAND

IS 51 20 HOUSTON ST.	PS 56 250 KRAMER AVE.	RALPH MCKEE HS 29D ST. MARKS PLACE
JEROME PARKER CAMPUS 100 ESSEX DR.	PETRIDES COMPLEX 715 OCEAN TERRACE	

